

152251 - خاوند دوران نفاس دبر میں جماع کرنا چاہتا ہے

سوال

میرا خاوند بہت اچھا ہے اور مجھ سے محبت بھی کرتا ہے میرے ساتھ کسی قسم کا کوئی بخل نہیں کرتا، ہماری شادی کو صرف ایک ہی سال ہوا ہے، میرا خاوند شادی سے قبل لواطت کرتا تھا، مجھے شادی کے بعد میرے ساتھ مجامعت کے طریقہ سے مجھے اس کی لواطت کا علم ہوا ہے۔ اس کے بعد میں نے مختلف ویب سائٹس پر اس کے متعلق سرچ کی اور خاوند کے سامنے اس کا حکم واضح کیا اور جو کچھ پڑھا تھا اسے بتایا تا کہ وہ پڑھ کر یہ معلوم کر کر لے کہ ایسا کرنا حرام ہے۔ میں نے اسے کہا کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ ہماری جانب دیکھے گا بھی نہیں، میں نے محسوس کیا کہ کچھ دنوں تک تو وہ اس سے باز رہا لیکن پھر دوبارہ وہی کام کرنے لگا، یہ علم میں رہے کہ بعض اوقات وہ میرے ساتھ ایسا کرنے کا مطالبہ کرتا ہے، اور اب میں ولادت کے بھی قریب ہوں۔ ہمیشہ مجھے کہتا ہے کہ نفاس کی مدت میں وہ برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے میرے ساتھ پیچھے سے مجامعت کرنا چاہتا ہے، تا کہ اس کا دھیان باہر نہ جائے، وہ چاہتا ہے کہ حرام کام کا مرتکب نہ ٹھرے۔

برائے مہربانی مجھے بتائیں میں کیا کروں اور اسے کیا جواب دوں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے ؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

اول:

کتاب و سنت اور اجماع امت کے ساتھ بیوی سے دبر یعنی پاخانہ والی جگہ مجامعت کرنا حرام ہے، اور اس لیے کہ اس سلسلہ میں شدید قسم کی وعید آئی ہے یہ کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتا ہے۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

اور یہ لوگ آپ سے حیض کے بارہ میں دریافت کرتے ہیں آپ انہیں کہہ دیں کہ یہ گندگی ہے، حیض کی حالت میں عورتوں سے علیحدہ رہو، اور ان کے قریب مت جاؤ حتیٰ کہ وہ پاک صاف ہو جائیں، اور جب وہ پاک صاف ہو جائیں تو پھر ان کے پاس وہیں سے جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تم اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو آؤ البقرة (222 - 223) .

یہاں کھیتی سے مراد ولادت والی جگہ یعنی قبل عورت کی شرمگاہ ہے، اس لیے مرد کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی بیوی سے قبل میں کسی بھی کیفیت میں چاہے جماع کر سکتا ہے، چاہے وہ پچھلی جانب سے قبل میں جماع کرے یا پھر اگلی جانب سے لیکن شرط یہ ہے کہ جماع قبل میں ہی کیا جائے نہ کہ دبر یعنی پاخانہ والی جگہ میں۔

اس سلسلہ میں درج ذیل احادیث وارد ہیں:

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

" جو کوئی بھی حیض والی عورت سے یا پھر اپنی بیوی کے ساتھ دبر میں جماع کرتا ہے، یا کسی کاہن اور نجومی کے پاس گیا تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ (دین) کے ساتھ کفر کا ارتکاب کیا "

سنن ترمذی حدیث نمبر (135) سنن ابو داود حدیث نمبر (3904) سنن ابن ماجہ حدیث نمبر (369) علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الترغیب حدیث نمبر (2433) میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔

اور ایک حدیث میں وارد ہے کہ:

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی دبر میں جماع کرنے والے شخص پر لعنت کرتے ہوئے فرمایا:

" وہ شخص ملعون ہے جو عورت کی دبر میں جماع کرتا ہے "

سنن ابو داود حدیث نمبر (2162) علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الترغیب حدیث نمبر (2432) میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔

اور ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

" اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شخص کی جانب نہیں دیکھے گا جو کسی مرد کے ساتھ لواطت کرتا ہے، اور نہ ہی ایسے شخص کی طرف دیکھے گا جو عورت کی دبر میں جماع کرتا ہے "

سنن ترمذی حدیث نمبر (1166) علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے سنن ترمذی میں حسن قرار دیا ہے۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کے بارہ میں کہتے ہیں:

" اس حدیث کے بہت سارے طرق ہیں سب کو ملا کر یہ قابل حجت بن جاتی ہے " انتہی

دیکھیں: فتح الباری (8 / 191)۔

دوم:

آپ کے علم میں رہنا چاہیے کہ یہ عمل - حرام ہونے کے ساتھ ساتھ - مرد اور عورت دونوں کے لیے فساد و خرابی اور ضرر کا بھی باعث ہے جس کی بنا پر ایسے عمل سے نفرت کرنا اور دور رہنا اور بھی ضروری اور واجب ہو جاتا ہے۔

ابن قیم رحمہ اللہ یہ نقصانات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں:

" اور اس میں یہ نقصان اور ضرر بھی پایا جاتا ہے کہ:

عورت کو حق حاصل ہے کہ اس کا خاوند اس کے ساتھ وطئ اور مجامعت کرے، اور عورت کی دہر میں مجامعت کرنے سے بیوی کا حق وطئ جاتا رہتا ہے اور اس طرح عورت کی خواہش پوری نہیں ہوتی، اور نہ ہی مطئ و مجامعت کا مقصد پورا ہوتا ہے۔

اور پھر یہ بھی ہے کہ:

ایسا کرنے میں مرد کو ضرر اور نقصان ہوتا ہے، اسی لیے عقل و دانش رکھنے والے طبیب اور فلسفی وغیرہ سب ایسا کرنے سے منع کرتے ہیں، کیونکہ عورت کی فرج کو یہ خاصیت حاصل ہے کہ وہ اندر جانے والے پانی کو جذب کرتی ہے، اور اس سے مرد کو راحت حاصل ہوتی ہے۔

لیکن دہر میں وطئ کرنے سے سارا پانی جذب نہیں ہوتا اور نہ ہی عضو تناس سے سارا پانی خارج ہوتا ہے کیونکہ یہ طبعی معاملہ کے خلاف ہے اس لیے نقصان دہ ہے۔

اور اس میں یہ بھی نقصان اور خرابی پائی جاتی ہے کہ:

ایسا کرنا عورت کے لیے بہت زیادہ نقصان اور ضرر کا باعث بنتا ہے، کیونکہ یہ طبیعت سے دور اور غیر طبعی فعل ہے، اور طبیعت اس سے انتہائی قسم کی نفرت کرتی ہے۔

اور یہ بھی خرابی پائی جاتی ہے کہ:

اس سے غم و پریشانی پیدا ہوتی ہے، اور فاعل و مفعول سے نفرت حاصل ہوتی ہے۔

اور یہ بھی خرابی پائی جاتی ہے کہ:

اس سے چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور سینے میں اندھیرا چھا جاتا ہے، اور دل کا نور اور روشنی جاتی رہتی ہے، اور

چہرے پر وحشت چھا جاتی ہے، اور یہ اس کی علامت بن جاتی ہے جسے ادنیٰ سی فراست رکھنے والا شخص پہچان جاتا ہے۔

اور اس میں یہ خرابی بھی پائی جاتی ہے کہ:

اس سے شدید قسم کی نفرت و ناراضگی پیدا ہوتی ہے اور فاعل و مفعول کے مابین باہمی تعلقات منقطع ہو جاتے ہیں اور ایسا ضرور ہوتا ہے " انتہی

دیکھیں: زاد المعاد (4 / 262) .

سوم:

آپ کو چاہیے کہ خاوند کو اپنے ساتھ یہ قبیح عمل نہ کرنے دیں، بلکہ ایسا کرنے سے باز رہیں چاہے اس کے لیے آپ کو اپنے میکے ہی کیوں نہ جانا پڑے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اگر طلاق کا بھی مطالبہ کرنا پڑے تو کوئی حرج نہیں۔

خاص کر آپ کے اس خاوند کو تو اس قبیح عمل سے منع کرنا اور بھی یقینی ہو جاتا ہے کہ آپ بیان کر رہی ہیں کہ شادی سے قبل بھی وہ لواطت کرتا تھا، اللہ محفوظ رکھے، اگر وہ آپ کے ساتھ یہی عمل اب بھی کرتا ہے اور اس کی بجائے فرج میں مباح وطیٰ پر اکتفا نہیں کرتا تو پھر اس گندے کام پر مصر رہنا اسے دوبارہ اسی لواطت اور فحاشی میں لے جانے کا باعث بن جائیگا، اور اس سلسلہ میں وہ جو عذر بیان کرتا ہے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔

کیونکہ وہ تو آپ کو آگ اور اللہ جبار کے غضب کی دعوت دے رہا ہے، اور انسان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے کو راحت دینے کے لیے اپنے آپ کو تباہ کر لے۔ اگر اس جیسے کام میں راحت ہو تو۔ بلکہ اس میں تو دونوں کی ہی تباہی ہے۔

جب وہ کچھ ایام صحیح ہوا ہے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعاگو ہیں کہ وہ اسے اس بیماری اور وبا سے محفوظ رکھے اور آپ بھی اس سلسلہ میں ایسے عمل پر یقینی انکار کر کے اس کی معاونت کریں تا کہ وہ آپ سے حرام کام میں شریک ہونے سے بالکل ناامید ہو جائے، اور اس سلسلہ میں اس کی خواہش اور امید بھی ختم ہو جائے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے درج ذیل سوال کیا گیا:

اپنی بیوی سے دبر میں وطیٰ کرنے والے شخص پر کیا واجب ہوتا ہے، اور کیا کسی عالم دین نے ایسا کرنا مباح قرار دیا ہے یا نہیں؟

شیخ الاسلام کا جواب تھا:

رب العالمین:

دبر میں وطئ کرنا کتاب اللہ اور سنت نبویہ کے دلائل سے حرام ہے، اور صحابہ کرام اور تابعین عظام سب ائمہ کا بھی یہی مسلک ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں فرمایا ہے:

تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، تم اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ، اور اپنے لیے (نیکِ اعمال) آگے بھیجو .

اور صحیح بخاری میں ثابت ہے کہ:

" یہودی کہا کرتے تھے کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی سے پیچھے کی جانب سے قبل میں جماع کرے تو بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے، چنانچہ اس کے متعلق مسلمانوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو اللہ عزوجل نے یہ آیت نازل فرمائی:

تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں تم اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ .

یہاں کھیتی سے مراد وہ جگہ ہے جہاں بیج بویا جاتا ہے اور بچے کا بیج تو صرف فرج میں ہی بویا جاتا ہے دبر میں نہیں.

اس کے علاوہ ایک اثر میں یہ وارد ہے کہ:

دبر میں وطئ کرنا لواط صغریٰ کہلاتی ہے.

اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

" اللہ سبحانہ و تعالیٰ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا؛ تم عورتوں کے ساتھ ان کی دبر میں وطئ مت کرو "

یہاں الحشوش سے مراد دبر ہے، جو کہ گندگی کی جگہ ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو حیض والی عورت سے حالت حیض میں فرج میں وطئ کرنا حرام قرار دی ہے حالانکہ یہ گندگی اور نجاست عارضی ہے، تو پھر وہاں جہاں مستقل طور پر مغلظہ نجاست پائی جائے کیسے حال ہوگا.

اور پھر یہ بھی کہ یہ تو لواطت کی جنس سے تعلق رکھتی ہے.

اور پھر شیخ الاسلام رحمہ اللہ یہاں تک کہتے ہیں:

" جس نے بھی بیوی سے دہر میں وطئ کی اسے ضرور سزا دی جائے اور یہ سزا ایسی ہونی چاہیے جو اسے اس کام سے روکے، اور اگر یہ معلوم ہو جائے کہ وہ پھر بھی باز نہیں آتے تو پھر ان دونوں (خاوند اور بیوی) میں علیحدگی کرانا ضروری ہے "

والله تعالى اعلم " انتہی

دیکھیں: مجموع الفتاوی (32 / 267) .

اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے درج ذیل سوال دریافت کیا گیا:

جناب والا میرے اس سوال کا جواب ضرور دیں کیونکہ میرے لیے بہت اہم سوال ہے اور مجھے پریشان کیے ہوئے ہے:

میرا خاوند میرے ساتھ پیچھے - یعنی دہر میں - سے وطئ کرنا چاہتا ہے اور میں ایسا کرنے سے انکار کرتی ہوں، لیکن وہ مجھے اتنا مجبور کر دیتا ہے کہ میں رونے بھی لگ جاتی ہوں اور انکار کرتی ہوں، لیکن وہ پھر بھی مجھے ایسا کرنے پر مجبور کرتا ہے، برائے مہربانی مجھے اس سلسلہ میں معلومات فراہم کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے؟

شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا:

عورت کے ساتھ دہر میں وطئ کرنا کبیرہ گناہ ہے، حتیٰ کہ اس سلسلہ میں شدید قسم کی وعید آئی ہے، اس میں کفر کی بھی وعید آئی ہے، اور لعنت کی وعید بھی، اور اسے لواطت صغریٰ کا نام دیا گیا ہے۔

اس کی حرمت میں بہت ساری نصوص پائی جاتی ہیں اور بعض سلف رحمہ اللہ سے اس کی جو اباحت بیان کی جاتی ہے وہ اس سلسلہ میں ان کے ذمہ غلط لگایا گیا ہے، جیسا کہ زاد المعاد میں ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔

اس سے تو ان کی مراد یہ ہے کہ پیچھے سے قبل میں وطئ کی جائے، اور یہ جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں کہ انسان اپنی بیوی کے پیچھے سے قبل میں جماع اور وطئ کرے؛ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں تم جہاں سے چاہو اپنی کھیتی میں آؤ البقرة (223) .

لیکن بیوی سے دہر میں وطئ کرنا جائز نہیں ہے، یہاں ایک مسئلہ ہے وہ یہ کہ:

بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے ایسا کیا - یعنی جب بیوی کی دہر میں وطئ کی تو - نکاح ٹوٹ جاتا

ہے، حالانکہ ایسا نہیں، بلکہ نکاح تو باقی ہے، لیکن اگر وہ بار بار اور مستقل طور پر ایسا کرے تو پھر ایسا کرنے والے خاوند اور بیوی میں علیحدگی کرانا واجب ہے۔

بیوی کو چاہیے کہ وہ بقدر استطاعت پوری طاقت سے خاوند کو ایسا کرنے سے منع کرے، پہلے تو میری خاوندوں کو یہ نصیحت ہے کہ وہ اپنے اور اپنے گھر والوں کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر اور تقویٰ اختیار کریں، اور اپنے آپ کو سزا کا مستحق مت بنائیں۔

اور پھر میری بیویوں کو یہ نصیحت ہے کہ: وہ بالکل ایسا کرنے سے باز رہیں، چاہے اس کے نتیجہ میں انہیں اپنے میکے بھی جانا پڑے تو وہ میکے چلی جائے، اور ایسے خاوند کے پاس مت رہے، تو اس حالت میں بیوی اپنے خاوند کی نافرمان نہیں ٹھرے گی، کیونکہ وہ تو ایک معصیت و گناہ سے دور بھاگی ہے۔

اور اگر اس سے بھاگ کر وہ میکے چلی جاتی ہے تو اس صورت میں وہ خاوند سے نان و نفقہ حاصل کرنے کا حق رکھتی ہے، چاہے وہ اپنے میکے ایک یا دو ماہ بھی رہے تو وہ اخراجات کا مطالبہ کر سکتی ہے، کیونکہ ظلم تو خاوند کی جانب سے ہے اس لیے کہ خاوند کے لیے بیوی کو اس غلط کام پر مجبور کرنا حلال نہیں تھا " انتہی دیکھیں: اللقاء الشهري (59 / 14) .

رہا اس کا یہ دعویٰ کہ: ایسا اس لیے کرتا ہے تا کہ وہ حرام کی طرف نہ دیکھ سکے:

تو یہاں وہ جو کچھ چاہتا ہے وہ بعینہ حرام ہے، تو پھر کیا فرق ہوا: (یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص لو سے بچنے کے لیے آگ کا سہارا لے) !!؟

اور اگر وہ سچا ہے تو اس کے لیے حیض اور نفاس کی مدت میں جماع کے علاوہ باقی ہر چیز سے لطف اٹھانا جائز ہے نہ تو وہ اس مدت میں قبل میں وطئ و جماع کر سکتا ہے اور نہ ہی دبر میں، اور اگر اس کے لیے اسے آپ کے جسم کے بھی حصہ میں انزال کرنا پڑے یا پھر آپ کے ہاتھ سے تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں۔

لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حرام کی ہے اس جگہ سے اجتناب کرے!!

اللہ کے بندو کیا حلال اور اچھی چیز میں کفایت نہیں ہے!!

اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کے خاوند کو ہدایت دے، اور اس کی اصلاح فرمائے، اور آپ دونوں سے شر و فتنہ اور بلاء کو دور کرے۔

واللہ اعلم .